

CPO MEDIA CELL NEWS ALERT

پیغام

کراچی مارچ 12:

ترجمان سندھ پولیس کے دفتر سے جاری ایک اعلامینے کے مطابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی نے پولیس افسران اور جوانوں کے نام اپنے الوداعی پیغام میں کہا ہے کہ آئی جی سندھ کے عہدے کا چارج ایسے وقت میں چھوڑ رہا ہوں کہ جب صوبے میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص امن و امان کے حالات انتہائی بہتر ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان رینجرز سندھ کا کردار بھی بلاشبہ قابل تعریف اور لائق ستائش ہے ۔

انہوں نے کہا کہ انسداد جرائم کے خلاف آپ تمام کی کارکردگی اور کاوشیں نا صرف ایک سنگ میل ہے بلکہ میرے لئے باعث فخر بھی رہی کہ میری کمانڈ میں آپ جیسے بہادروں نے انتہائی لگن اور محنت سے اپنے شب و روز صوبے میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر انجام دینے ۔

انہوں نے مزید کہا کہ میں شہدائے سندھ پولیس کی قربانیوں کی بھی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے فرض کی راہ میں اپنی قیمتی جانیں تک قربان کر دیں اور جرأت بہادری کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ جو سندھ پولیس کی سنہری یادوں کا حصہ بن کر ہر آنیوالے افسر و جوان کے لئے مشعل راہ کا کام کرتی رہیگی ۔ میں تمام شہدائے پولیس کے ورثا اور اہل خانہ کو سیلوٹ کرتا ہوں اور اپنے اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ محکمہ پولیس ہمیشہ سے انکے ساتھ تھا اور رہیگا وہ ہر گز اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں

آئی جی سندھ نے کہا کہ پولیس کی تمام تر کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں اپنے حسن اخلاق اور برتاؤ سے ایسا ماحول بناؤ کہ عوام آپ کے شانہ بشانہ جرائم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں مجھے قوی امید ہے کہ پولیس کا ہر افسر اور جوان صوبے میں قیام امن اور جرائم کے خلاف ایک ٹیم کی حیثیت میں اپنے کردار کو مزید نمایاں کریگا اور پولیس کے مورال کو مزید بلند کریگا ۔

آئی جی سندھ نے پولیس فورس کے نام اپنے الوداعی پیغام میں مزید کہا کہ پولیس کی تمام تر کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں جس میں پاکستان آرمی ، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کا بھی پولیس کے ساتھ ہر اقدامات میں تعاون شامل رہا ۔
